



سوال

(114) نماز وتر فرض نماز کے ساتھ ادا کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا نماز وتر کے ساتھ فرض اولے جاسکتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نوافل کے ساتھ فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے بشرطیکہ نوافل کی ہیئت ادا بھی فرض جیسی ہو، نماز وتر کے ساتھ فرض پڑھنے کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں فرض نماز کے کچھ ارکان رہ جاتے ہیں جن کی وجہ سے فرض نماز کی ادائیگی انتہائی ناقص ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک سلام کے ساتھ تین وتر پڑھنے کی صورت میں چار رکعت والی فرض نماز کا تشہد اول رہ جائے گا۔ لہذا ایسی صورت میں نماز وتر کے ساتھ فرض کی ادائیگی درست نہیں ہے، البتہ اگر دو سلام کے ساتھ وتر پڑھے جائیں یا دو وتر باقی ہوں تو اس صورت میں نماز وتر کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی ممکن ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 144